

## 5493 - جہاد میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنے کا حکم

### سوال

جہاد میں جانے کے لیے والدین کی اجازت لینا کب واجب ہوتی ہے؟  
کیا اجازت اس وقت لی جاتی ہے جب کہ والدین کم عمر ہوں، یا مالدار ہوں اور بہت زیادہ مال و دولت کے مالک ہوں؟ اور کیا پھر بھی اجازت کی ضرورت ہے؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اصلاً تو جہاد فرض کفایہ ہے کہ امت کے کچھ افراد جہاد کریں تو باقی سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے، لہذا جب جہاد فرض کفایہ ہو تو جہاد میں جانے سے قبل مجاہد کے لیے اجازت لینا واجب ہے، اس لیے اگر اس کے والدین مسلمان ہوں تو ان سے اجازت لینا واجب ہے، چاہے وہ غنی اور مالدار ہوں یا نہ؛ کیونکہ اس سلسلے میں واردہ شدہ نصوص واضح اور صریح ہیں۔

صحیحین میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟

اس نے جواب دیا: جی ہاں

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" تو ان دونوں میں جہاد کرو"

اور امام احمد، ابو داؤد اور ابن حبان نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے ہجرت کرنے والے ایک شخص کو والدین کی بنا پر واپس بھیج دیا اور اسے فرمایا:

" کیا انہوں نے تجھے اجازت دی ہے؟

تو اس نے کہا: نہیں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" ان کے پاس واپس جاؤ اور اجازت طلب کرو اگر تو وہ اجازت دے دیں تو جہاد کرنا وگرنہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو"

یہ تو اس وقت ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو، اور جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر اجازت طلب کرنی واجب نہیں، کیونکہ فرض عین والے امور میں کسی ایک سے بھی اجازت طلب نہیں لی جاتی۔

اور جہاد اس وقت فرض عین ہوتا ہے جب کوئی شخص میدان جہاد میں دشمن کے سامنے صف آراء ہو، یا پھر دشمن مسلمانوں کے علاقے پر دھاوا بول دیں، یا امام اور خلیفہ اور امیر جہاد کو فرض عین کر دے، یا لڑائی کے لیے نکلنے کا کہے، یا واقع کے اعتبار سے اس پر فرض عین ہو جائے، مثلاً وہ عسکری امور کا ماہر ہو یا کسی اسلحہ کا ماہر ہو جس کی مجاہدین کو ضرورت ہو اور وہ اس کے محتاج ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کام کو بہتر طریقہ سے انجام نہ دے سکتا ہو۔

واللہ اعلم .